

برائے فوری اجراء

## برامپٹن کو شہری ڈیزائن کی منصوبہ بندی میں قومی حسن کارکردگی کے لیے تسلیم کر لیا گیا

برامپٹن، آن (26 اپریل 2021) - سٹی آف برامپٹن کو کینیڈین سوسائٹی آف لینڈ سکیپ آرکیٹیکٹس (CSLA) کی جانب سے منصوبہ بندی اور تجزیہ کے زمرے میں اپنی "اپ ٹاؤن برامپٹن ٹرانزٹ اور پینٹڈ کمیونٹیز ٹول کٹ" جمع کروانے پر ایوارڈ آف ایکسیلنس سے نوازا گیا ہے۔

برامپٹن کی اربن ڈیزائن ٹیم نے ٹورانٹو اسکول آف سیٹیز اور اربن لینڈ انسٹیٹیوٹ آف ٹورانٹو ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ اشتراک میں یہ پراجیکٹ بنایا۔ "اپ ٹاؤن برامپٹن ٹرانزٹ اور پینٹڈ کمیونٹیز ٹول کٹ" شہر کو بڑھانے کے ایک اشتراک پر مبنی ماڈل کے بارے میں تحقیق کرتی ہے، جو سرکاری شعبے، نجی شعبے، غیر منافع بخش اور مقامی کمیونٹیوں کے درمیان زیادہ مطابقت کو ممکن بناتا ہو۔

اپ ٹاؤن ماڈل ایک "26 گھنٹے کے شہر" کی قدر سامنے لاتی ہے، جہاں 20 منٹ میں چلنے کے قابل کمیونٹیاں سفر کرنے اور کار رکھنے کے زیادہ خرچ کو کم کرتی ہوں - جو ہر روز معیار زندگی اور پیداواریت کو بہتر کرنے کے لیے "اضافی گھنٹے" فراہم کرے۔ یہ ماڈل اعلیٰ معیاری نوکریاں اور ملازمتیں پیدا کرنے میں بھی معاونت فراہم کرتا ہے اور شہر کو ایک کاربن-نیوٹرل مستقبل کی جانب بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔

اس مہینے کی ابتداء میں منعقد ہونے والی ایوارڈز کی ایک تقریب میں، چودہ پراجیکٹس کو CSLA کی جانب سے قومی ایوارڈ نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ یافتہ پراجیکٹ وہ مختلف اقسام کی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، جو لینڈ اسکیپ آرکیٹیکٹس کر سکتے ہیں اور یہ کہ وہ ہماری رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کی جگہوں کی شکل بدلنے میں کیسے مدد کر رہے ہیں۔

جیتنے والوں کو لینڈ اسکیپ آرکیٹیکٹس کی ایک قومی جیوری کی جانب سے منتخب کیا گیا۔ جمع کروانے والوں کی تعداد 72 تھی۔ جیوررز کی جانب سے لاگو کی گئی شرائط میں شامل تھیں:

- لینڈ اسکیپ آرکیٹیکچر کے فن کی گہری سمجھ اور ترکیب اور تفصیل پر توجہ کا مظاہرہ؛
- قیادت، پراجیکٹ مینجمنٹ، کام کے پھیلاؤ، نئی سمتوں یا نئی ٹیکنالوجی میں حسن کارکردگی ظاہر کرنا؛
- تصورات، طریقوں، مواد یا نفاذ میں جدت؛
- متعلقہ پیشوں، کلینٹس اور عوام کے درمیان اس شعبے کا فروغ؛ اور
- مثالی ماحولیاتی اور/یا سماجی آگاہی کا مظاہرہ۔

### اقتباسات

"برامپٹن ایک آگے کا سوچنے والا مواقع کا شہر ہے اور ہم متنوع، صحت بخش اور مکمل کمیونٹیوں کے لیے اسمارٹ منصوبہ بندی کے راستے کی قیادت کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں اپنی اربن ڈیزائن ٹیم کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے 20 منٹ کے اندر چلنے کے قابل کمیونٹیوں کے لیے منصوبے بنانا جاری رکھا اور اپ ٹاؤن برامپٹن کی توانائیوں کو استعمال میں لانے کا طریقہ سامنے لایا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہور اونٹاریو LRT کا اسٹیلز اسٹاپ میٹرو لنکس 2041 ریجنل ٹرانسپورٹیشن پلان اور برامپٹن آفیشنل پلان میں گیٹ وے موبیلٹی ہب کے طور پر زیر توجہ ہے۔ یہ تقرر بلند کثافت کے ساتھ بڑھوتری اور سفر کے مختلف طریقوں کے لیے ڈیزائن میں توجہ دیے جانے میں معاونت کرتا ہے، بشمول پیدل چلنے اور سائیکل چلانے کا اعلیٰ معیاری انفراسٹرکچر۔ اگر اس عالمی وباء نے ہمیں کوئی چیز سکھائی ہے، تو وہ یہ کہ ہمیں بدلتے ہوئے رویوں کے ساتھ لازمی طور پر مطابقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپ ٹاؤن کو ٹرانزٹ کے مطابق ڈھلی ایک کمیونٹی میں بدلنا ہمارے رہائشیوں، کاروباروں اور مقامی اہم فریقین کے لیے بہترین عمل ہے۔"

- مارٹن میٹیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی میں، ہم ایسی رہنے کے قابل، صحت بخش اور مکمل کمیونٹی کی تشکیل کی منصوبہ بندی کے لیے وقف ہیں، جو ہمارے رہائشیوں کے خیالات اور ضروریات کی عکاسی کرتی ہوں۔ اس باوقار ایوارڈ پر ہماری اربن ڈیزائن ٹیم کو مبارک ہو۔ اپ ٹاؤن میں شاپرز ورلڈ

سائیٹ برامپٹن کے اس علاقے کو ٹرانزٹ کے مطابق ڈھلی ایک کمیونٹی میں بدلنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)